



سوال

(152) ینام نکاح دینے والے کی شکل و صورت لڑکی کو پسند نہ ہو تو کیا وہ انکار کر سکتی ہے؟

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
کیا کسی شخصی سبب کی بناء پر (یعنی مجھے وہ پسند نہ آیا ہو) میرا کسی لچھے حال والے مسلمان سے شادی کا انکار گناہ شمار ہوگا؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیح السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!
الحمد للہ، والصلوة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

ایسا کرنا گناہ شمار نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اسلام میں لڑکے کو دیکھنا اور اطمینان نفس لڑکی کا حق ہے اور ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات لڑکی کو مرد کی خلقت اور شکل پسند نہ آئے تو اس صورت میں اگر وہ مرد سے شادی کرنے سے انکار کرتی ہے تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر آپ کو یہ خدشہ ہو کہ آپ سے گاڑی چھوٹ جائے گی یعنی شادی کی عمر ڈھل جائے گی یا یہ کہ پھر اس طرح کا بھی نہیں ملے گا تو آپ اپنے اس مزاج کو چھوڑ دیں اور اپنی عقل پر کنٹرول کرتے ہوئے شادی کرنے میں جلدی کریں۔

شیخ ابراہیم حنفیری کا کہنا ہے کہ:

جب عورت کسی صاحب خلق اور دیندار کو اپنی خواہش کی پیروی کرتے ہوئے رد کرتی ہے تو وہ اس طرح بغیر شادی کے ہی بیٹھی رہتی ہے۔ (شیخ محمد المنجد)

صدما عندی واللہ اعلم بالصواب

فتاویٰ نکاح و طلاق

ص 218

محدث فتویٰ